شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء

الطريقة المصطفوية
في
سلسلة السادة الرفاعية والسنوسية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد داعيا اليه باذنه سراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين هم جمعوا خيرا كثيرا اما بعد فيقول العبد المذنب الخاطي محمد عبد الهادي الايوبي الانصاري سقاه الله كاسا من معين عشقه الساري اردت ان اكتب من السلاسل من الشيوخ الاعاظم فكتبت هذا و سميته الطريقة المصطفوية في السلاسل الرزاقية والسنوسية وهو مرتب على بابين وخاتمة فالباب الاول في السلسلة الرزاقية والثاني في السنوسية والخاتمة في الصلوات الخمسة واورادها فتقبلها مني ونفعنا الله وجميع المسلمين به امين يارب العالمين بجاه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

الباب الاول

في الطريقة القادرية الرزاقية الانوارية الوالية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ زُبْدَةِ الْعَارِفِيْنَ قُدْوَةِ الْوَاصِلِيْنَ اِمَامِ الْاَوْلِيَاءِ حَضْرَةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اللَّكْنَوِيِّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ زُبْدَةِ الْعَارِفِيْنَ قُدْوَةِ الْوَاصِلِيْنَ اِمَامِ الْاَوْلِيَاءِ حَضْرَةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْوَالِي اللَّكْنَوِيِّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ زُبْدَةِ الْعَارِفِيْنَ قُدْوَةِ الْوَاصِلِيْنَ شَيْخِ الشُّيُوْخِ حَضْرَةِ مَوْلَانَا اَحْمَدَ اَنْوَارِ الْحَقِّ قَدَّسَ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ حَضْرَةِ عَبْدِ الْحَقِّ اللَّكْنَوِيِّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ زُبْدَةِ الْعَارِفِيْنَ قُدْوَةِ الْوَاصِلِيْنَ حَضْرَةِ السَّيِّدِ الشَّاهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْبَانْسَوِيِّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ زُبْدَةِ الْعَارِفِيْنَ قُدْوَةِ الْوَاصِلِيْنَ حَضْرَةِ السَّيِّدِ الشَّاهِ عَبْدِ الصَّمَدِ خُدَانُمَا قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ شَيْخِ الْاِسْلَامِ حَضْرَةِ الشَّاهِ هِدَايَةِ اللّٰهِ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ اِلٰهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدٍ شَيْخِ الْمَشَايِخِ قُدْوَةِ السَّالِكِيْنَ حَضْرَةِ الشَّاهِ حُسَيْنِ خُدَانُمَا قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ

إلهي بحرمة سر شيخ الشيوخ قدوة العرفاء حضرة الشاه أمان الله قدس الله
سره إلهي بحرمة سر قدوة العارفين حضرة الشاه ابراهيم البهكري قدس الله
سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشاه إبراهيم الملتاني قدس الله
سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد بخش فيض البهكري قدس
الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشاه جلال القادري قدس
الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد محمد القادري قدس
الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشاه بهاء الدين
قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد أبي العباس
أحمد بن حسين قدس الله سرهما إلهي وبحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد حسن
بن علي قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد علي قدس
الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد
أحمد بن محمد قدس الله سرهما إلهي بحرمة سر
شيخ الاسلام حضرة السيد أبي نصر محمد بن
أبي صالح قدس الله سرهما إلهي بحرمة سر
شيخ الاسلام حضرة السيد أبي صالح نصر بن
عبد الرزاق قدس الله سرهما إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة السيد عبد الرزاق
بن الغوث الأعظم قدس الله سرهما إلهي بحرمة سر قطب الأقطاب الغوث الأعظم
الباز الأشهب رأس الأولياء مولانا السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله
سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام والمسلمين حضرة أبي سعيد المبارك المخزومي
قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشيخ أبي الحسن علي الهكاري
قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام والمسلمين حضرة الشيخ أبي الفرح
يوسف الطرطوسي قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام والمسلمين عبد الواحد
التميمي قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشيخ عبد العزيز
التميمي قدس الله سره إلهي بحرمة سر شيخ الاسلام حضرة الشيخ أبي بكر
الشبلي قدس الله سره إلهي بحرمة سر سيد المشائخ سيد الطائفة الصوفية

حضرۃ الجنید البغدادی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر شیخ الاسلام السری السقطی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر شیخ الاسلام حضرۃ المعروف الکرخی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر شیخ الاسلام حضرۃ الشیخ داؤد الطائی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر شیخ الاسلام حضرۃ الحبیب العجمی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر امام الائمۃ حضرۃ الحسن البصری قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر سید الاولیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہٗ الٰہی بحرمۃ سید العالمین رسول الثقلین اکرم الاولین والاخرین نبینا وشفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی اٰلہ واصحابہ الکرام اجمعین ۔ طریق اخر سلسلۃ الذھب ۔ الٰہی بحرمۃ سر شیخ الاسلام حضرۃ المعروف الکرخی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ عنھما الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ سیدنا موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ عنہ الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ سیدنا محمد الباقر رضی اللہ عنہ الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ سیدنا زین العابدین علی رضی اللہ عنھما الٰہی بحرمۃ سر حضرۃ امام الائمۃ سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ عنھما الٰہی بحرمۃ سر سید الاولیاء خلیفۃ اللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہٗ الٰہی بحرمۃ سر سید العالمین خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی اٰلہ واصحابہ وسلم ۔ ان تھب لی من الخیر مالا یعلم علمہٗ الا انت وتصرف عنی بالسوء مالا یعلم علمہٗ الا انت ۔

الطریقۃ الصابریۃ الرزاقیۃ الچشتیۃ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء

الٰہی بحرمۃ سر رب الارباب الحاج الحافظ محمد عبد الوھاب بن مولانا الشیخ محمد عبد الرزاق الفرنگی محلی قدس سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر مولانا الشیخ الحافظ محمد عبد الرزاق الفرنگی محلی قدس اللہ سرہٗ الٰہی بحرمۃ سر مولانا الشیخ

الحافظ محمد عبد الوالی قدس اللہ سرہ ۔

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ مولانا
الحافظ محمد ابی الکرم قدس اللہ سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ المفتی محمد
یعقوب قدس اللہ سرہ الٰہی بحرمۃ سر
شیخ المشائخ مولانا محمد عبد العزیز قدس سرہ

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ صدوقۃ
الواصلین مولانا الشیخ احمد انوار الحق
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر زبدۃ
العارفین مولانا الشیخ احمد
عبد الحق الفاروقی مجددی قدس اللہ سرہ

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ مولانا الشیخ محمد سعید التھانوی قدس سرہ الٰہی
بحرمۃ سر قدوۃ العارفین زبدۃ السالکین شیخ المشائخ مولانا الشیخ قطب الدین احمد
الشہید التھانوی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ مولانا القاضی کھانسی
الہ آبادی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر عارف باللہ شیخ المشائخ شیخ محب اللہ الہ آبادی
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ ابی سعید الگنگوہی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
شیخ المشائخ مولانا نظام الدین التھانیسری قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ مولانا
الشیخ جلال الدین التھانیسری قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ مولانا الشیخ
عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر الشیخ محمد عارف قدس سرہ

الٰہی بحرمۃ سر مولانا الشیخ الحافظ محمد
عبد الرزاق الفاروقی مجلی قدس اللہ سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ زماں احمد
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ
ہدایت احمد قدس سرہ الٰہی بحرمۃ
سر شیخ المشائخ شیخ حسین احمد
قدس سرہ ۔

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ
درویش احمد قدس سرہ الٰہی بحرمۃ
سر شیخ المشائخ شیخ علی احمد قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ نقیب احمد
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ
محمد احمدی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
الشیخ حسین احمد قدس سرہ ۔

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ احمد زمان قدس سرہ ۔

الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ محمد
بتاوتی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
شیخ المشائخ شیخ محمد المشرف بتاوتی قدس سرہ

الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ شیخ محمد
المعروف بہ پیر شفیعا قدس سرہ الٰهی بحرمة
سر شیخ المشائخ شیخ سلیم قدس سرہ الٰهی
بحرمة سر شیخ المشائخ شیخ حمید قدس سرہ
الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ شیخ الحاج
قطب الدین قدس سرہ الٰهی بحرمة سر
شیخ المشائخ پیر اولیاء قدس سرہ الٰهی
بحرمة سر شیخ المشائخ شیخ کبیر الاولیاء
المعروف بہ پیر اولیاء قدس سرہ الٰهی
بحرمة سر شیخ المشائخ شیخ محمد عارف
قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ
شیخ احمد عارف بن شیخ احمد عبد الحق
الردولوی قدس اللہ سرہ -

الٰهی بحرمة سر قدوة العارفین زبدة الواصلین امام الاولیاء متین الوقت
والزمان مقبول قائد علی الاطلاق مولانا
عبد الرزاق قدس سرہ الٰهی بحرمة سر
شیخ الشیوخ امام الاولیاء مولانا الحافظ
محمد عبد الولی قدس سرہ -

الٰهی بحرمة سر قدوة الکاملین مولانا
جمال الدین احمد قدس سرہ الٰهی بحرمة سر
ملک العلماء مولانا علاء الدین احمد
قدس سرہ -

الٰهی بحرمة سر قدوة العارفین زبدة الواصلین شیخ الشیوخ مولانا احمد
انوار الحق قدس سرہ الٰهی بحرمة سر نفیس الکامل مولانا الشیخ احمد عبد الحق الفرنگی
محلی قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ تاج الاولیاء هادی الاصفیاء سلطان العارفین
برهان العاشقین قطب الاقطاب السید عبد الرزاق البانسوی قدس سرہ الٰهی بحرمة سر الشیخ احمد عبد الحق الردولوی
قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ جلال الدین پانی پتی قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ خواجہ
شمس الدین الترک پانی پتی قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ علاء الدین
علی احمد صابر قدس سرہ الٰهی بحرمة سر شیخ المشائخ فرید الحق والدین گنج شکر قدس

إلهي بحرمة سر قطب الأقطاب خواجة قطب الدين البختيار الكاكي قدس سره إلهي بحرمة
سر شيخ المشائخ معين الحق والدين حسن السجزي الچشتي قدس سره إلهي بحرمة
سر شيخ المشائخ خواجة عثمان الهاروني قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ المشائخ
الحاج شريف الزندني قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ المشائخ قطب الدين
المودود الچشتي قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ الشيوخ ناصر الدين أبي يوسف
الچشتي قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ الشيوخ قطب الدين أبي محمد الچشتي قدس
سره إلهي بحرمة سر أبي أحمد الچشتي قدس سره إلهي بحرمة سر أبي إسحاق
الشامي قدس سره إلهي بحرمة سر ممشاد علو الدينوري قدس سره إلهي بحرمة سر
شيخ المشائخ أبي هبيرة البصري قدس سره إلهي بحرمة سر حذيفة المرعشي قدس
سره إلهي بحرمة سر السلطان إبراهيم بن أدهم البلخي قدس سره إلهي بحرمة
سر أبي الفضل فضيل بن عياض قدس سره إلهي بحرمة سر أبي الفضل عبد الواحد
بن زيد قدس سره إلهي بحرمة سر إمام الأولياء أبي الحسن حسن البصري قدس
سره إلهي بحرمة سر أمير المؤمنين إمام المتقين أسد الله الغالب علي بن
أبي طالب كرم الله وجهه إلهي بحرمة سر سيد الكونين رسول الثقلين جد
الحسن والحسين أحمد مصطفى محمد مجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني بالسوء ما لم يعلم
علمه إلا أنت -

الطريقة النظامية الچشتية الرزّاقية

إلهي بحرمة سر محبوب رب الأرباب مولانا الحاج محمد عبد الوهاب قدس سره
إلهي بحرمة سر مقبول قادر على الإطلاق مولانا محمد عبد الرزاق الفرنگي محلي
قدس سره إلهي بحرمة سر قدوة الكاملين شيخ المشائخ مولانا جمال الدين أحمد
قدس سره إلهي بحرمة سر قدوة الواصلين شيخ المشائخ ملك العلماء علاء الدين
أحمد قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ المشائخ مولانا أنوار الحق قدس سره
إلهي بحرمة سر مقبول الإله شيخ المشائخ محب الله قدس سره إلهي بحرمة سر

شیخ المشائخ محمد لیسین قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ امام الملۃ والدین قدس
سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ رکن عالم القلندر المعروف بشاہ اتھل قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ معین الدین قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ عبداللہ شیخ ابوالفتح قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ ابوالقاسم [illegible] سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ الہداد
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ صفی بن علیم قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
شیخ المشائخ شیخ احمد السعید قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ بینا قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ محمد سارنگ قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ
السید جلال الدین راجو قتال قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ السید جلال الدین البخاری
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ نصیر الدین السراج الدہلوی الٰہی بحرمۃ
سر قطب الہند شیخ نظام الدین الاولیاء محبوب الٰہی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
شیخ المشائخ شیخ فرید الحق والدین گنجشکر قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ
المشائخ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ
معین الدین الاجمیری السنجری قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ شیخ
عثمان الہارونی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ الحاج شریف الزندنی
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ قطب الدین المودود الچشتی قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر ناصر الدین ابی یوسف الچشتی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر ابی محمد
الچشتی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر ابی احمد الچشتی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
ابی اسحاق الشامی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ ممشاد علو الدینوری
الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ ابی ہبیرۃ البصری قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر
حذیفۃ المرعشی قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر سلطان ابراہیم بن ادہم
قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر شیخ المشائخ فضیل بن عیاض قدس سرہ الٰہی
بحرمۃ سر عبد الواحد بن زید قدس سرہ الٰہی بحرمۃ سر حسن البصری قدس سرہ
الٰہی بحرمۃ سر اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الٰہی بحرمۃ
سر سید المرسلین محبوب رب العالمین محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان تہب لی من الحق فلا یعلم عنہ الا انت وتصرف عنی السوء فلا یعلم عنہ الا انت۔

الطریقة المصافحة الرزاقیة

الٰہی بحرمة سر شیخ المشائخ محبوب رب الارباب مولانا الخاتم محمد عبد الوہاب قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر مقبول قادر علی الاطلاق مولانا محمد عبد الرزاق الفرنجی محلی قدس سرہٗ۔

الٰہی بحرمة سر سید السادات سید منتہیٰ قدس سرہٗ۔

الٰہی بحرمة سر مولانا ابی الفیض عبد الوحید قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر مولانا محمد عبد الواحد قدس سرہٗ۔

الٰہی بحرمة سر مولانا جمال الدین احمد قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر مولانا علاء الدین احمد قدس سرہٗ۔

الٰہی بحرمة سر قدوة السالکین زبدة العارفین محی العلوم مولانا ابی العیاش محمد عبد العلی محمد قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر خلیل الاصحاب سید الاولیاء خلیفة اللّٰہ امیر المؤمنین سیدنا عبد اللّٰہ ابی بکر الصدیق رضی اللّٰہ عنہ الٰہی بحرمة سر رسول الثقلین سید الکونین محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان تہب لی من الخیر ما لا یعلمہ علمہ الا انت وتصرف عنی بالسوء ما لا یعلم علمہ الا انت۔

الطریقة المصافحة الرزاقیة

الٰہی بحرمة سر مقبول القادر علی الاطلاق مولانا محمد عبد الرزاق الفرنجی محلی قدس سرہٗ

الٰہی بحرمة سر سید السادات سید منتہیٰ قدس سرہٗ

الٰہی بحرمة سر مولانا ابی الفیض عبد الوحید قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر مولانا محمد عبد الواحد قدس سرہٗ۔

الٰہی بحرمة سر مولانا جمال الدین احمد قدس سرہٗ الٰہی بحرمة سر مولانا علاء الدین احمد قدس سرہٗ

إلٰهي بحرمة سر قدوة العارفين زبدة السالكين جامع المعقول والمنقول
مولانا محي العلوم عبد العلي محمد قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ
المشائخ مولانا امين الدين السيد نفيري قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ
المشائخ الحاج صبغت الخيرآبادي إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ الشيخ عبد الله
الجبني قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ جليل الاصحاب عبد الله
بن جعفر الطيار قدس سره إلٰهي بحرمة سر سيد الاولين والآخرين
نبي الانبياء سيد الاتقياء خاتم النبيين شفيع المذنبين محبوب رب
العالمين محمد المصطفى احمد المجتبى صلوات الله وسلامه اجمعين ۔
ان تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه الا انت وتصرف عني بالسوء ما لا يعلم
علمه الا انت ۔

الطريقة السهروردية

إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ مقبول القادر على الاطلاق مولانا حافظ محمد
عبد الرزاق الفرنگي محلي قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ شاه محمد مينا
قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ سارنگ قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ
المشائخ سيد راجو قتال قدس سره إلٰهي بحرمة سر سيد جلال الدين بخاري قدس
سره إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ كبير حسن البخاري قدس سره إلٰهي بحرمة
سر بهاء الحق والدين زكريا قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ شهاب الدين السهروردي
قدس سره إلٰهي بحرمة سر ضياء الدين ابي النجيب عبد القاهر قدس سره
إلٰهي بحرمة سر ابي حفص عمر السهروردي قدس سره إلٰهي بحرمة سر محمد
بن عبد الله المعروف بعمويه قدس سره إلٰهي بحرمة سر ابي احمد الدينوري
قدس سره إلٰهي بحرمة سر ممشاد الدينوري قدس سره إلٰهي بحرمة سر ابي القاسم
الجنيد البغدادي قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ المشائخ سري سقطي قدس
سره إلٰهي بحرمة سر معروف الكرخي قدس سره إلٰهي بحرمة سر شيخ داؤد الطائي
قدس سره إلٰهي بحرمة سر حبيب العجمي قدس سره إلٰهي بحرمة سر حسن البصري قدس سره

إلهي بحرمة سيد أمير المؤمنين إمام العالمين أسد الله الغالب علي بن
أبي طالب كرم الله وجهه إلهي بحرمة سيد رسول الثقلين نبي الحرمين
محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
أن تهب لي من الغنى ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني بالسوء ما لا يعلم
علمه إلا أنت۔

الباب الثاني

في الطريقة الخضرية السنوسية

اللهم بحرمة سيد شيخ الشيوخ المجاهد
في سبيل الله السيد أحمد بن السيد محمد السنوسي
المهاجر قدس سره۔

اللهم بحرمة سيد السيد محمد المهدي
قدس سره

إلهي بحرمة سيد سيدنا السيد أحمد
الريفي قدس سره۔

اللهم بحرمة سيد سيدنا السيد محمد بن علي السنوسي قدس سره إلهي
بحرمة سيد السيد سيدنا أحمد بن إدريس السنوسي قدس سره إلهي بحرمة سيد سيدنا
السيد عبد الوهاب التازي قدس سره إلهي بحرمة سيد سيدنا السيد
عبد العزيز الدباغ قدس سره إلهي بحرمة سيد سيدنا الخضر عليه السلام
إلهي بحرمة سيد الأنبياء حبيب رب العالمين شفيع المذنبين
أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين
سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
إن تهب لي من الغنى ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني بالسوء ما لا يعلم
علمه إلا أنت۔

الطريقة الأخرى

اللهم بحرمة سر شيخ الشيوخ المجاهد في سبيل الله السيد أحمد بن السيد محمد السنوسي قدس سره -

الهي بحرمة سر سيدنا السيد أحمد قدس سره -

الهي بحرمة سر السيد محمد المهدي الريفي قدس سره -

الهي بحرمة سر سيدنا أبي العباس خضر عليه السلام الهي بحرمة سر شفيعنا وسيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني بالشر ما لا يعلم علمه إلا أنت -

الطريقة الشاذلية السنوسية

الهي بحرمة سر سيدنا المجاهد في سبيل الله السيد أحمد بن السيد محمد السنوسي قدس سره الهي بحرمة سر سيدنا السيد أحمد الريفي قدس سره الهي بحرمة سر سيدنا محمد بن علي السنوسي قدس سره الهي بحرمة سر الشيخ الشهاب الطبولي المعتبر الطرابلسي اللهم بحرمة سر الشيخ القطب عبد الله الفاسي قدس سره الهي بحرمة سر القطب مولاي محمد التهامي قدس سره اللهم بحرمة سر مولاي عبد الله الشريف الحسني الغوث قدس سره الهي بحرمة سر علي بن أحمد الاجهوري قدس سره الهي بحرمة سر سيدي عيسى بن الحسن المصباحي قدس سره الهي بحرمة سر القطب [illegible] قدس سره الهي بحرمة سر القطب الكبير الفاضل الشهير سيدي عبد الله الغزواني قدس سره الهي بحرمة سر القطب سيدي عبد العزيز التباع قدس سره الهي بحرمة سر شيخه القطب السيد محمد بن سليمان الجزولي [illegible] مصنف صاحب دلائل الخيرات قدس سره الهي بحرمة سر شيخه سيدي الشيخ [illegible] أمغار قدس سره الهي بحرمة سر القطب أبي عثمان سعيد الهنتاتي قدس سره

إلهي بحرمة سر القطب سيدي عبد الرحمن الحجراجي قدس سره إلهي بحرمة
سر القطب سيدي أبي الفضل الهندي قدس سره إلهي بحرمة سر القطب
سيدي أحمد البدوي قدس سره إلهي بحرمة سر سيدي عنوس البدوي
قدس سره إلهي بحرمة سر القطب السيد الشيخ القراني قدس سره إلهي بحرمة
سر شيخه القطب سيدي عبد الله المغربي قدس سره إلهي بحرمة سر القطب
سيدي أبي المحاسن قدس سره إلهي بحرمة سر القطب أبي القاسم سيدي أبي الحسن
الشاذلي قدس سره إلهي بحرمة سر الإمام القطب الكامل الغوث الفرد
السيد عبد السلام بن المشيش صاحب الصلوات المشهورة بالصيغة المسماة
بالمشيشية اللهم بحرمة سر القطب سيدي عبد الرحمن قدس سره إلهي بحرمة
سر القطب سيدي عبد الله التتائي قدس سره إلهي بحرمة سر القطب سيدي
أبي بكر الشبلي قدس سره اللهم بحرمة سر سيدي أبي القاسم الجنيد البغدادي
قدس سره إلهي بحرمة سر السري السقطي قدس سره إلهي بحرمة سر سيدي
معروف الكرخي قدس سره إلهي بحرمة سر القطب سيدي داود الطائي قدس سره
إلهي بحرمة سر القطب سيدي حبيب العجمي قدس سره إلهي بحرمة سر القطب
سيدي الحسن البصري قدس سره إلهي بحرمة سر سيد الأقطاب مولاي الحسن
بن علي عليه السلام إلهي بحرمة سر سلطان الأقطاب أمير المؤمنين سيدي
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلهي بحرمة سر إمام المرسلين سيد المتقين
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم
علمه إلا أنت ـ

الطريقة الخامسة

اللهم بحرمة سر المجاهد في سبيل الله السيد محمد السنوسي قدس سره
إلهي بحرمة سر السيد أحمد الريفي قدس سره إلهي بحرمة سر سيدنا
محمد بن علي السنوسي قدس سره إلهي بحرمة سر شيخه محمد بن محمد بن

عبد السلام الناصري اللهم بحرمة سر سيدنا محمد بن عبد السلام البناني قدس سره
الهي بحرمة سر سيدنا محمد بن عبد القادر الفاسي قدس سره اللهم بحرمة سر
سيدنا عبد الرحمن بن محمد الفاسي قدس سره الهي بحرمة سر سيدنا أبي المحاسن
يوسف بن محمد الفاسي الهي بحرمة سر الولي الكامل سيدي عبد الرحمن الدكالي
الشهير بالمجذوب قدس سره الهي بحرمة سر سيدنا أبي الحسن علي أحمد الصنهاجي
قدس سره الهي بحرمة سر سيدنا أبي الفضل إبراهيم بن علي الزهدي قدس سره الهي بحرمة
سر سيدنا الشيخ الطريقة أبي العباس أحمد الزروق قدس سره الهي بحرمة سر الشيخ
الثعالبي قدس سره الهي بحرمة سر البلالي قدس سره الهي بحرمة سر الشيخ محمد
بن عبد الله بن محمد ريوي المعروف بمغربي قدس سره الهي بحرمة سر الشيخ
أبي العباس الهمداني والشيخ سعد الدين الزعفراني قدس سرهما الهي بحرمة سر
القطب القباني ومحمود الزعفراني قدس سرهما الهي بحرمة سر الشيخ أبي بكر
السكرواسي وناصر الدين علي بن أبي بكر بن ذي النون السلامي وموفق الدين
الجندي قدس سرهم اللهم بحرمة سر صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي قدس
سره اللهم بحرمة سر محي الدين بن علي بن العربي الحاتمي الطائي قدس سره
اللهم بحرمة سر أبي يعقوب يوسف بن مخلف الكومي الفاسي قدس سره
اللهم بحرمة سر أبي محمد يونس بن يحيى الهاشمي قدس سره اللهم بحرمة سر
سيدي عبد القادر الجيلي قدس سره اللهم بحرمة سر أبي الوقت عبد الأول
السجزي وأبي محمد عبد العزيز بن نصر بن الأخضر قدس سرهما اللهم بحرمة سر
يحيى بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الواحد الثقفي قدس سره اللهم بحرمة
سر أحمد بن أحمد الحداد قدس سره اللهم بحرمة سر أحمد بن عبد الله
قدس سره اللهم بحرمة سر سهل بن عبد الله التستري قدس سره اللهم
بحرمة سر أبي [illegible] العبادي قدس سره اللهم بحرمة سر الفضيل بن عياض
بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني قدس سره اللهم بحرمة سر
العلاء بن المسيب قدس سره اللهم بحرمة سر أبي الدرداء رضي الله عنه
اللهم بحرمة سر أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا أبي بكر الصديق

وأمير المؤمنين وإمام المتقين سيدنا عمر وأمير المؤمنين إمام العاملين سيدنا علي وإمامين الهمامين المظلومين المقتولين سيدنا الحسن والحسين وأبي العباس الخضر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم بحرمة سر سيد المرسلين إمام المتقين رسول الثقلين محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم + إن تهب لي من الغنى ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني بالسوء ما لا يعلم علمه إلا أنت -

الطريقة القادرية السنوسية

إلهي بحرمة سر سيدنا المجاهد في سبيل الله السيد أحمد بن السيد محمد السنوسي قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ الشيوخ سيدنا السيد أحمد الريفي قدس سره إلهي بحرمة سر سيدنا السيد محمد بن علي السنوسي قدس سره

إلهي بحرمة سر شيخ الشيوخ السيد أحمد بن إدريس قدس سره إلهي بحرمة سر سيدنا السيد أبي المواهب التازي قدس سره إلهي بحرمة سر أبي العباس السباني قدس سره إلهي بحرمة سر الشيخ عبد القادر المشرقي الشريف قدس سره إلهي بحرمة سر العلامة المحقق السيد سعد الله ملا محمد بن السيد المراد الهندي السوقي قدس سره إلهي بحرمة سر السيد عبد الشكور قدس سره إلهي بحرمة سر شاه محمد الاسعدي قدس سره إلهي بحرمة سر الشيخ علي الحسن الكابائي قدس سره

إلهي بحرمة سر الشيخ الشريف المحتسب سيدي السيد عبد العزيز المولود في اليوم الثالث من ربيع الأول عام إحدى وثمانين وخمسمائة وتوفي إحدى وعشرين من شهر صفر سنة ست وستين وستمائة فالف قدس سره

إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة السيد عبد الرزاق بن الغوث الأعظم قدس
سرهما إلهي بحرمة سر قطب الأقطاب الغوث الأعظم الباز الأشهب رأس الأولياء
مولانا السيد محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ
الإسلام والمسلمين حضرة أبي سعيد المبارك المخزومي قدس سره إلهي بحرمة
سر شيخ الإسلام حضرة الشيخ أبي الحسن علي الهكاري قدس سره إلهي بحرمة سر
شيخ الإسلام والمسلمين حضرة الشيخ أبي الفرج يوسف الطرطوسي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام والمسلمين عبد الواحد التميمي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة الشيخ عبد العزيز التميمي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة الشيخ أبي بكر الشبلي قدس سره
إلهي بحرمة سر سيد المشائخ سيد الطائفة الصوفية حضرة الجنيد البغدادي
قدس سره إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام السري السقطي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة المعروف الكرخي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة الشيخ داود الطائي قدس سره
إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة الحبيب العجمي قدس سره
إلهي بحرمة سر إمام الأئمة حضرة الحسن البصري قدس سره
إلهي بحرمة سر سيد الأولياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
إلهي بحرمة سيد العالمين رسول الثقلين أكرم الأولين والآخرين
نبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الكرام أجمعين
طريق آخر سلسلة الذهب - إلهي بحرمة سر شيخ الإسلام حضرة المعروف
الكرخي قدس سره إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة علي بن موسى الرضا رضي
الله عنهما إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة سيدنا موسى الكاظم رضي الله عنه
إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه
إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة سيدنا محمد الباقر رضي الله عنه
إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة سيدنا زين العابدين علي رضي الله عنهما
إلهي بحرمة سر حضرة إمام الأئمة سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما

اللهم بحرمة سر سيد الأولياء خليفة الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اللهم وبحرمة سر سيد العالمين حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من الشر ما لا يعلم علمه إلا أنت.

الطريقة القادرية السنوسية من روحانية سيدنا سلطان العارفين السيد عبد القادر الجيلاني

اللهم بحرمة سر سيدنا المجاهد في سبيل الله سيدي أحمد بن السيد محمد السنوسي قدس سره اللهم بحرمة سر سيدنا السيد محمد المهدي قدس سره اللهم بحرمة سر سيدنا سلطان العارفين محبوب رب العالمين السيد عبد القادر الجيلاني قدس سره. وقد أخذه عن السيد محمد المهدي في القرآن العظيم وقرأ عليه وقال له اقرأه وواظب عليه إلى أن قال له وأجزته.
أقول أنا الأصغر محمد عبد الهادي الأنصاري بن العلامة علي محمد الفرشي مكي غفر له الله الباري آمين ثم

فبحكم ما رسم هذه الأوراق إجازة تامة مطلقة وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإني أوصي مجازي لهذه الكتب بتقوى الله واتباع رسول الله فعلا وقولا لا مخالفين وأن يكون عاملا بقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأرجو الطلب من المجاز المذكور أن لا ينساني من دعواته في خلواته وجلواته وعلى الله المتوكل إنه أكرم مسؤول وأحق أن يجيب كل من له يتجه وعلى الله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

الخاتمة

في الصلوة الخمس والأوراد والأذكار

الفائدة في صلوة الفجر يصلي سنة الفجر في بيته أو في زاوية المسجد
فائدہ فجر کی نماز میں فجر کی سنت گھر میں پڑھے یا مسجد کے کونے میں
يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الأخرى الإخلاص رواه مسلم ويضطجع
پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری میں اخلاص اسکو مسلم نے روایت کیا اور داہنی
على شقه الأيمن ثم يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده
کروٹ پر لیٹے پھر پڑھے
أستغفر الله مائة مرة ويصلي الفرض في المسجد فإذا صلى الفرض
سو مرتبہ اور فرض مسجد میں جماعت سے پڑھے پس جب فجر کے فرض
من الفجر فقراءته الطوال المفصل أو سورة يوسف والحج أو يس
پڑھے پس پڑھنا طوال مفصل کا مسنون ہے یا سورۂ یوسف اور حج یا یٰس
والواقعة أو الطارق والشمس والشمس والليل أو المؤمنون أو قاف
اور واقعہ یا والسماء والطارق اور والشمس یا والشمس اور سورۂ واللیل یا سورۂ مومنون یا سورۂ قاف
التكويرت أو إذا زلزلت في الركعتين أو المعوذتين ويوم الجمعة
یا اذا الشمس کورت یا اذا زلزلت دونوں رکعتوں میں یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور جمعہ کے دن
الم السجدة والدهر وفي السفر قل يا أيها الكافرون والإخلاص وبعد
الم سجدہ اور سورۂ دہر پڑھے اور سفر میں سورۂ کافرون اور قل ہو اللہ احد اور فجر کی
صلوة الفجر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله
نماز کے بعد
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبع مرات۔
سات مرتبہ پڑھے۔

قدیرٌ بکل صلوٰۃ لا الٰہ الا اللہ وحدہٗ لا شریک لہٗ لہ الملک ولہ الحمد وھو علیٰ
اور ہر نماز کے بعد
کل شئی قدیرٌ عشر مرات سبحان اللہ ثلثًا وثلثین والحمد للہ ثلثًا وثلثین اللہ اکبر
دس مرتبہ پڑھے ۳۳ مرتبہ ۳۳ مرتبہ
اربع وثلثین والاخلاص عشر واذا سألک عبادی عنی فانی قریبٌ اجیب
۳۴ مرتبہ اور سورۂ اخلاص دس مرتبہ
دعوۃ الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلھم یرشدون

سبعًا لقد جاءکم رسولٌ من انفسکم الی اٰخر السورۃ عشر مرات و
سات مرتبہ آخر سورہ تک دس مرتبہ اور
بعد کل مرۃ صلی اللہ علیک یا محمد استغفر اللہ واتوب الیہ
بعد ہر مرتبہ کے
ثلثًا والحجر الزراقی فھو ان یرفع یدیہ کالدعاء فیقرأ بسم اللہ الرحمٰن
تین مرتبہ اور حجر زراقی اور وہ اس طرح کہ دونوں ہاتھ مثل دعا کے اٹھائے اور پڑھے
الرحیم لا الٰہ الا اللہ احدٰی واربعین مرۃ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
اکتالیس مرتبہ
وانت ارحم الراحمین احدٰی واربعین مرۃ لدفع الامراض ومسح
اکتالیس مرتبہ امراض کے دفع کے واسطے اور ملے اپنے دونوں ہاتھ اپنے
علی جسدہ والعضو العوقر ھو اللہ الکافی فقصدت الکافی وجدت
تمام جسم پر پھیرے اور عضو خوفیہ
الکافی لکل کافٍ کفانی الکافی ونعم الکافی وھو الکافی فللہ الحمد

احدٰی عشر مرۃ مع الصلوٰۃ اولًا واٰخرًا ثلثًا ثلثًا ثم یقرأ ...
گیارہ مرتبہ اول و آخر درود تین تین مرتبہ پڑھے ...

بسم اللّٰہ الذی لا الٰہ الا ہو الرحمٰن الرحیم اللّٰہم اذہب عنی الہم

والحزن ثم یقرأ اللّٰہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللّٰہم انی اعوذ بک

پھر پڑھے

من عذاب القبر لا الٰہ الا انت ثلثا ثم داوم القراٰن ما تیسر منہ ثم یقرأ

تین مرتبہ پھر قرآن کو ہمیشہ پڑھے جسقدر ہوسکے پھر

الدلائل واوراد الفتحیۃ مع دعاء الرقاب وحزب البحر یقرأ ثلث مرات فی

دلائل الخیرات اور اوراد فتحیہ دعاے رقاب کے ساتھ پڑھے اور تین مرتبہ حزب البحر ہر روز پڑھے

کل یوم ثم یصلی الاشراق اربع رکعات مثنیٰ مثنیٰ بالفلق وقل للاربع ثم یصلی

پھر چار رکعتین اشراق کی دو دو رکعتوں سے چاروں قل کے ساتھ پڑھے پھر

صلٰوۃ التوبۃ ورکعتین لرضاء الوالدین وصلٰوۃ الضحیٰ ثمان رکعات

نماز توبہ کی دو رکعتین اور دو رکعتین رضاء والدین کیواسطے پڑھے جسکا طریقہ وظائف قادریہ میں مذکور ہے

بتسلیمتین ویقرأ فی الاولیٰ منہا بعد الفاتحۃ سورۃ الشمس وفی الثانیۃ اللیل

اور چاشت کی آٹھ رکعتین دو سلام سے پڑھے پہلی رکعت میں بعد فاتحہ کے سورۂ والشمس دوسری میں سورۂ واللیل

وفی الثالثۃ سورۃ الضحیٰ وفی الرابعۃ سورۃ الانشراح وفی البواقی الاربع القلاقل

اور تیسری میں والضحیٰ اور چوتھی میں الم نشرح پڑھے اور دوسری چار رکعتوں میں چاروں

الاربع فاذا سلم وفرغ منہا دعا اللّٰہم بک احاول وبک اصاول وبک اقاتل

قل پڑھے جب نماز سے فارغ ہوجاوے

ثلث مرات ثم یقرأ واسجد واقترب ویسجد ویقول بعد تسبیح السجدۃ ثم

تین مرتبہ پڑھے پھر آیۂ سجدہ پڑھکر سجدہ کرے اور بعد تسبیح سجدہ

اللّٰہم اغفرلی وارحمنی ثلث مرات یا وہاب سبعا او سبعین مرۃ ثم یرفع راسہ

تین مرتبہ پڑھے سات مرتبہ یا ستر مرتبہ پھر اپنا سر سجدہ سے

ویقول یا عظیم خمسا مرۃ واللّٰہم اغفرلی وارحمنی وتب علی انک انت

اٹھاکر پانچ مرتبہ پڑھے

التوّاب الرحيم مائة مرة ثم يدعو بما شاء ويقول اللهمّ يا غنيّ الله يا
سو مرتبہ پڑھے پھر جو چاہے دعا کرے اور کہے
يا معيننا وعظيم حاجاتنا إليك في اللهمّ وفّقنا لمرضاتك وثبّتنا على دينك

وطاعتك ثلث عشرة مرات ثم اشتغل بالكسب الحلال لا ينسى ذكر الله في جميع أشغاله
تیرہ مرتبہ پڑھے پھر کسب حلال کے حصول میں مشغول ہو اور اس حال میں کہ ان میں مشغول ہو ذکر خدا کو کسی حال میں نہ بھولے

الفائدة الثانية الورد ما بين الزوال الى الفراغ من الظهر

ينبغي أن يصلي في بيته أولا صلوة الظهر أربع ركعات مع القلاقل الأربع فإذا
پس چاہیے کہ اول گھر میں نماز ظہر کی چار رکعتیں چاروں قل سے پڑھے پھر جب
فرغ قال قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآيتين إلى بغير حساب
فارغ ہو کہے
ثم يدعو بهذا الدعاء اللهمّ يا كاشف الغمّ ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن
پھر یہ دعا پڑھے
الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك

وافضى ثم يصلي سنة الظهر أربعا كلها في بيته ثم يصلي الفرض في المسجد بجماعة
پھر ظہر کی چار رکعتیں ظہر کی سنتوں کی اپنے گھر میں پڑھے پھر فرض ظہر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے
لأنها واجبة على كل حرّ مسلم بالغ ويقرأ فيه سورة لقمان والذاريات أو
اس واسطے کہ جماعت ہر مسلمان آزاد بالغ پر واجب ہے فرض میں سورۂ لقمان اور ذاریات یا
الم السجدة أو المرسلات أو إذا السماء انشقت أو عمّ والنازعات أو سبّح اسم
الم سجدہ یا مرسلات یا اذا السماء انشقت یا عم پارہ اول اور والنازعات یا سبح اسم
وهل أتاك أو سورة البروج والطارق أو الضحى والليل ثم يصلي ركعتين سنة
اور هل اتاك یا سورۂ بروج پڑھے اور طارق یا والضحیٰ اور واللیل پھر دو رکعت سنت

البعدية ركعتين بسورة الكافرون والاخلاص يصليها في بيته ثم يركع اربع ركعات

بعد کی ... سورہ کافرون اور اخلاص سے پڑھے ان دونوں کو اپنے گھر میں پڑھے پھر چار رکعتیں

النفل بالقلاقل الاربع ثم ركعتين بحفظ الايمان ثم يقرأ الاوراد المذكورة بعد

نفل چاروں قل سے پڑھے پھر دو رکعتیں حفظ الایمان کیلیے پڑھے پھر وہ اوراد جو مذکور ہو گئے ہیں

صلوة الفجر ثم عند دخول العصر اذا اذان العصر يصلي اربع ركعات

پڑھے پھر عصر کی نماز کا جب وقت آ جائے اور مؤذن اذان کہے تو چار رکعت چاروں قل سے

سنة العصر في بيته يقرأ في الاولى اذا زلزلت الارض وفي الثانية والعاديات

سنت عصر کی اپنے گھر میں پڑھے پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری میں والعادیات

وفي الثالثة القارعة وفي الرابعة التكاثر ثم يصلي فرض العصر في المسجد

اور تیسری میں القارعة اور چوتھی میں تکاثر پڑھے پھر عصر کے فرض جماعت سے مسجد میں

بجماعة والقراءة فيها والسماء ذات البروج والسماء والطارق او سبح

ادا کرے اور فرضوں میں سورۂ بروج سورۂ طارق یا سورۂ

اسم وهل اتاك او الشمس والليل ونحوهما ثم يقرأ ما ذكر بعد كل صلوة ثم

اعلیٰ اور ہل اتاک یا سورۂ والشمس اور واللیل یا مثل اسکے پڑھے اور پھر نماز کے بعد وظائف جو فرضوں میں ذکر

المسبعات العشر وهي عشر كلمات كل كلمة تقرأ سبع مرات وهي سورة الفاتحة

ہیں پڑھے پھر مسبعات عشرہی سات کلمے ہیں ہر کلمہ سات سات مرتبہ پڑھے

اية الكرسي وسورة الكافرون وسورة الاخلاص والمعوذتان سبعا سبعا

مع البسملة اول كل سورة وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك

وحبيبك ورسولك النبي الامي وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبعا

سات مرتبہ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ سَبْعًا اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا

سات مرتبہ

وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَّلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ سَبْعًا فَاِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا

سات مرتبہ پس جب آفتاب غروب ہو اگر روزہ دار ہے

اَفْطَرَ بِالرُّطَبِ اَوِ التَّمْرِ اَوْ مِمَّا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ اَوْ بِالْمَاءِ ثَلٰثَ حَسَوَاتٍ وَالْاَحَبُّ الْاِفْطَارُ

تین کھجوروں (چھوارون) سے افطار کرے یا اس چیز سے افطار کرے جسکو آگ نے نہ چھوا ہو یا تین گھونٹ پانی

بِاللَّبَنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ فَرْضَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ

سے اور مستحب دودھ سے افطار کرنا ہے پھر مغرب کی نماز پڑھے مسجد میں جماعت کے ساتھ پھر سنت مغرب کی

فِيْ بَيْتِهٖ يَقْرَأُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاِذَا فَرَغَ قَالَ يَا مُقَلِّبَ

گھر میں قل یا … اور قل ہو اللہ سے دو رکعتیں پڑھے اور جب فارغ ہو تو کہے

الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ وَطَاعَتِكَ ثُمَّ يُصَلِّي الْاَوَّابِيْنَ سِتَّ رَكَعَاتٍ

پھر صلوٰۃ الاوابین چھ رکعتوں سے

بِتَسْلِيْمَةٍ يَقْرَأُ فِي الْاُوْلٰى الْقَارِعَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ التَّكَاثُرَ وَفِي الثَّالِثَةِ الْكٰفِرُوْنَ

ایک سلام سے پڑھے اول میں سورۂ قارعہ اور دوسری میں تکاثر تیسری میں کافرون

وَفِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَفِي الْبَاقِيَتَيْنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَاِذَا سَلَّمَ قَالَ

اور چوتھی میں قل ہو اللہ احد اور پانچویں میں سورۂ فلق چھٹی میں سورۂ ناس پڑھے اور جب سلام پھیر

فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حِفْظَ الْاِيْمَانِ

تین مرتبہ پڑھے پھر دو رکعتیں حفظ الایمان کی پڑھے

يَقْرَأُ فِيْ كُلٍّ مِّنْهُمَا الْاِخْلَاصَ سِتَّ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً

ہر رکعت میں دونوں میں سے قل ہو اللہ احد چھ مرتبہ اور معوذتین ایک ایک مرتبہ

فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ وَقَالَ فِي السَّجْدَةِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

پھر سلام پھیر کر سجدہ کرے ... سجدے میں ... سات مرتبہ

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدْعُو بَسِيطًا يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَوْدَعْتُكَ إِيمَانِي فَاحْفَظْهُ عَلَيَّ

پھر سر سجدے سے اٹھائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے

فِي حَيَاتِي وَعِنْدَ مَمَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

يُكَرِّرُ هٰذَا الدُّعَاءَ تِسْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

اور یہ دعا نو مرتبہ پڑھے ... پھر درود کثرت سے پڑھے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي سُنَّةَ الْعِشَاءِ مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ

پھر چار رکعتیں سنت عشا کی چاروں قل سے گھر میں پڑھے

الْفَرْضِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ بِالْقَلَاقِلِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُصَلِّي فَرْضَ

پھر عشا کے فرض

الْعِشَاءِ فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ وَقِرَاءَتُهَا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَالسَّمَاءِ

مسجد میں ... جماعت سے پڑھے اور اذا السماء انشقت ... اور السماء

وَالْبُرُوجِ وَالطَّارِقِ أَوْ وَالشَّمْسِ وَاللَّيْلِ أَوِ الضُّحٰى وَالتِّينِ وَ

اور بروج اور طارق یا والشمس اور واللیل یا والضحیٰ اور والتین اور

نَحْوِهَا ثُمَّ يُؤَدِّي سُنَّةَ الْعِشَاءِ الْبَعْدِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْكَافِرُونَ

مثل اسکے ... پھر عشا کی دو رکعت سنت بعد پڑھے ... کافرون

وَالْإِخْلَاصِ ثُمَّ يُوتِرُ الْوِتْرَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِهَا سَبِّحِ اسْمَ

اور اخلاص سے پڑھے پھر تین رکعتیں وتر کی پڑھے ... اول میں ... سورۂ اسم اعلیٰ

رَبِّكَ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ

اور ... دوسری میں ... کافرون ... اور ... تیسری میں سورۂ

اللّٰهُ أَحَدٌ أَوْ فِي الْأُوْلَى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ أَعُوذُ

اخلاص ... یا پہلی میں سورۂ اخلاص ... اور دوسری میں سورۂ

بِرَبِّ الْفَلَقِ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ

سنے اور تیسری میں سورہ ناس پڑھے پھر جب سلام پھیرے کہے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي

تین مرتبہ اور آواز کو تیسری مرتبہ بھی بلند

الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَقُولُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقُولُ

کرے پھر کہے پھر سجدہ کرے اس میں

فِيهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

پانچ مرتبہ

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَجْلِسُ وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ

پھر سر سجدے سے اٹھائے اور بیٹھے اور آیۃ الکرسی پڑھے ایک مرتبہ پھر سجدہ کرے

وَيَقُولُ فِيهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ الخ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

اس میں پانچ مرتبہ کہے پھر بیٹھے اور تین مرتبہ کہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى

نَفْسِكَ قِيلَ يُكْرَهُ السَّجْدَةُ وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي

کہا گیا ہے کہ سجدہ مکروہ ہے اور جو حدیث کہ سجدوں کی وارد ہے

مَوْضُوعٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ مَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ (قِيلَ إِنْ قَرَأَ آيَةَ

وہ موضوع ہے مگر اس پر عمل مشائخ صوفیہ کا ہے اور بعض نے کہا گیا ہے کہ اگر آیۃ سجدہ

آيَةَ السَّجْدَةِ ثُمَّ سَجَدَ [illegible] ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

پڑھ کر سجدہ کرے [illegible] پھر دو رکعتیں

سَجَدَ [illegible] الْكَافِرُونَ وَيَقْرَأُ إِذَا زُلْزِلَتْ

اذا زلزلت الارض [illegible]

المذکور فی صلوۃ الضحی دبر کل صلوۃ فاذا اراد ان ینام

مذکور کے پڑھے پس جب ارادہ کرے سونے کا

قرأ آیۃ الکرسی وخواتیم البقرۃ بل البقرۃ کلھا ان امکن

تو آیۃ الکرسی اور سورہ بقر کا آخر رکوع پڑھے بلکہ پوری سورہ بقر پڑھے اگر ممکن ہو

وبنی اسرائیل واقتربت وتنزیل السجدۃ ویٰس والزمر

اور بنی اسرائیل اور اقتربت اور تنزیل السجدہ اور یٰس اور زمر

والدخان والواقعۃ والمسبحات والمنافقون وتبارک

اور دخان اور واقعہ اور مسبحات اور منافقون اور تبارک الذی

ویقرأ الھٰکم التکاثر والاخلاص مائۃ مرۃ والاخلاص

پڑھے پھر سورہ تکاثر اور سورۃ اخلاص سو سو مرتبہ اور اخلاص

والمعوذتین وینفثھا فی کفیہ ویمسح بیدیہ ما استطاع

اور معوذتین سو سو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرکے تمام جسم پر

من جسدہ یفعلھا ثلث مرات واذا اوی فراشہ ینفض

پھیرے اسکو تین مرتبہ کرے اور جب بچھونے پر اپنے آوے

فراشہ بصنفۃ ازارہ ثلث مرات ومن ینبغی ان یعد عند

اپنے بچھونے کو جھاڑے اپنے تہبند سے تین مرتبہ اور جب سوئے تو پہلے اپنے

رأسہ سواکہ وطھورہ وینوی القیام اللیل فکان سیدنا

نیچے مسواک اور پانی اپنے پاس رکھے اور عبادت کیواسطے قیام کی نیت کرے قیام لیل کی اور

عبد القادر الجیلانی قدس سرہ یصلی اول اللیل یسیرا ثم یذکر

حضرت غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اول رات کو تھوڑی نماز پڑھے بعدہٗ ذکر میں

الی ان یمضی ثلث الاول ثم یصلی قائما علی قدمیہ الی ان

مشغول ہو یہانتک کہ اول تہائی رات گزرجائے پھر کھڑے ہوکر نماز پڑھتے یہانتک کہ

یذھب الثلث الثانی ثم یجلس متوجھا مراقبا الی ان یھجم الی

دوسری تہائی گزر جاتی پھر متوجہ ہوکر مراقبہ میں بیٹھ جاتے یہانتک کہ صبح کی

صَلٰوۃِ الصُّبْحِ وَکَانَ یُصَلِّی الصُّبْحَ بِوُضُوْءِ الْعِشَاءِ کَذَا فِیْ بَهْجَۃِ
نماز کے واسطے نکلتے صبح کی نماز عشا کے وضو سے پڑھتے تھے جیسا بہجۃ الاسرار

الْاَسْرَارِ وَاِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّیْلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ
میں ہے۔ اور اگر بعد تہائی رات کے اٹھتے وضو کرتے پھر دو رکعتیں

شُکْرَ الْقِیَامِ یَقْرَأُ فِی الْاُوْلٰی اٰیَۃَ الْکُرْسِیِّ وَفِی الثَّانِیَۃِ خَوَاتِیْمَ الْبَقَرَۃِ
شکر القیام کی پڑھتے پہلی میں آیۃ الکرسی اور دوسری میں آخر سورہ بقرہ کا ختم کر پڑھے

ثُمَّ یُصَلِّی التَّهَجُّدَ اِثْنَیْ عَشَرَ رَکْعَۃً فَلْیَقْرَأْ لَیَالِیْ زِیَادَۃِ الْقَمَرِ
پھر تہجد کی بارہ رکعتیں پڑھتے پس پڑھے ان راتوں میں جن میں چاند بڑھتا ہے

فِیْ اَوَّلِ رَکْعَۃٍ مَرَّۃً سُوْرَۃَ الْاِخْلَاصِ وَفِی الثَّانِیَۃِ مَرَّتَیْنِ وَفِی
پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورۂ اخلاص اور دوسری میں دو مرتبہ اور

الثَّالِثَۃِ ثَلٰثًا وَکَذٰلِکَ اِلٰی اَنْ یَّکُوْنَ فِی الرَّکْعَۃِ الْاٰخِرَۃِ اِثْنَیْ
تیسری میں تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے اور ایسے ہی بڑھاتا جائے آخر رکعت میں بارہ

عَشَرَ مَرَّۃً سُوْرَۃَ الْاِخْلَاصِ وَفِیْ لَیَالِی انْحِطَاطِ نُوْرِ الْقَمَرِ فِیْ
مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور جن راتوں میں چاند گھٹتا ہے

اَوَّلِ رَکْعَۃٍ اِثْنَیْ عَشَرَ مَرَّۃً سُوْرَۃَ الْاِخْلَاصِ وَفِی الثَّانِیَۃِ
اول رکعت میں بارہ مرتبہ سورۂ اخلاص اور دوسری میں

اِحْدٰی عَشَرَۃَ مَرَّۃً وَهٰکَذَا اِلٰی اَنْ یَّکُوْنَ فِی الْاٰخِرَۃِ مَرَّۃً فَیَقْرَأُ
گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے اور اسی طرح گھٹاتا جاوے یہاں تک کہ آخر رکعت میں

مِنْ اَذْکَارِ الصَّلٰوۃِ مَا اَحَبَّ فَیُصَلِّی التَّهَجُّدَ مَثْنٰی مَثْنٰی
ایک مرتبہ اور اذکار نماز کے جو پسند ہوں پڑھے اور تہجد کی نماز دو دو رکعت پڑھے

وَیَجْلِسُ بَعْدَ کُلِّ شَفْعَۃٍ فَیَقُوْلُ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ
اور بیٹھے ہر دو رکعت کے بعد اور کہے

قَلْبِیْ اِلَیْکَ یَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِکَ

وطاعتك ثلث مرات فاذا فرغ من شفعات التهجد

تین مرتبہ پس جب شفعات تہجد سے فارغ ہو

جميعا قال اللهم اني اسالك الخ ويصلي على النبي ثلث

آخر تک اور نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے
تو کہے

مرات فان كان له رغبة في طريق الصوفية فليشتغل بعد

تین مرتبہ پس اگر اسے خواہش ہو اشغال صوفیہ صافیہ کرنے کی تو بعد اسکے جو مذکور

ما ذكر بما علمه شيخه مع رعاية شروطه واٰدابه كما ذكرته

ہوا اسمیں مشغول ہو جو اسکے پیرنے تعلیم کیا اسکی شرطوں اور آداب کی رعایت کرکے

في رسالتي المسماة باللطائف القادرية من الاحاديث النبوية

جیسا کہ میں نے اپنے رسالہ مسمے باللطائف القادریہ من احادیث النبویہ میں ذکر کیا ہے مشغول ہو

والله اعلم بالصواب

واليه المرجع

والمآب

قلم ملک ابی الرحم محمد ایوب انصاری